

صرف جو سو پہلے لگ جانا ہے اُس کو وصول کیا جاتا ہے۔

مہربانی فرما کر مندرجہ بالا مسئلہ پر غور فرمائیے اور جلد ہی مجھے مطلع فرمائیے تاکہ مسئلہ کا حل نکالا جائے۔

جواب :- اسلامی نظریاتی کونسل نے بینک کے لیے جو غیر سودی منافع بخش کام تجویز کیے ہیں ان میں سے ایک کام یہ تجویز کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سودی قرضے دینے کے بجائے وہ چیزیں فروخت کرے جن کے حصول کے لیے انہیں قرضہ دے رہا ہے۔ مثلاً ٹریڈنگ کے لیے کسی نے قرضہ مانگا ہے تو بینک قرض لینے والے سے کہے کہ ہم سے ٹریڈنگ خرید لو۔ اور بینک ٹریڈنگ کی اصل قیمت خرید پر اپنا منافع لگا کر ٹریڈنگ فروخت کرے۔ ٹریڈنگ کی کمپنی سے بینک نے پہلے سے معاملہ طے کیا ہوا ہو اور ٹریڈنگ کا خریدار بینک ہو۔ اور کمپنی نے بینک کے لیے ٹریڈنگ الگ کر دیے ہوں اور بینک کے کہنے پر وہ بینک کی طرف سے خریدار کو دے دیں۔ اور بہ وقت ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ بینک کے بجائے حکومت لگائے جب کہ وہ سمجھتی ہو کہ جرمانہ لگانے کی موقوفہ وجوہ موجود ہیں۔ لیکن عملاً اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ اس لیے بینک سے کہا جائے کہ یا تو وہ ٹھیک اسی طرح سے اس کا روباہ کو فروغ دے جس طرح نظریاتی کونسل نے اس کی سفارش کی ہے۔ بصورت دیگر دھوکے سے سودی کاروبار کو غیر سودی نام سے جاری رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔

مسلم پرسنل لائبریری

مسلم پرسنل لائبریری؟ شرعاً اس کی کیا اہمیت ہے؟ عصر حاضر میں اس کی اہمیت میں کیوں اضافہ ہوا ہے حکومت اس سلسلے میں کیا اقدام کر رہی ہے اور مسلمان اس سے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں؟ مستقبل میں کیا اندیشے ہیں۔ — اس موضوع پر اہل علم کے گرانقدر مقالات کے لیے پڑھیے۔

ماہنامہ دارالعلوم کا مسلم پرسنل لائبریری

پاکستان میں { مولانا عبدالرشید صاحب } مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان پتہ